



بنگلہ دیش کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز: آئی سی سی نے رجن مدوگالے کو میچ ریفری مقرر کر دیا

• احسن رضا اور شوزب رضا آن فیلڈ امپائرز مقرر

لاہور، 21 جنوری 2020ء:

پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ آئی سی سی میچ ریفریز کے ایلٹ پینل میں شامل سینئر رکن رجن مدوگالے سیریز میں شامل تینوں میچز میں ریفری کی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔

قومی امپائرز احسن رضا اور شوزب رضا کو آن فیلڈ امپائرز جبکہ احمد شہاب کو تھرڈ امپائر اور طارق رشید کو فورٹھ امپائر مقرر کیا گیا ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز کے تین میچز 24، 25 اور 27 جنوری کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے۔

رجن مدوگالے سے قبل ڈیوڈ بون (ویسٹ انڈیز ٹی ٹونٹی سیریز، سری لنکا ٹی ٹونٹی اور ایک روزہ سیریز)، جیف کرو (سری لنکا کے خلاف پہلا ٹیسٹ میچ)، اینڈی پائی کرافٹ (سری لنکا کے خلاف دوسرا ٹیسٹ میچ) اور رچی رچرڈسن (ورلڈ الیون) نے حالیہ چند ماہ میں آئی سی سی میچ ریفری کی حیثیت سے پاکستان میں فرائض انجام دیئے۔

رجن مدوگالے اس سے قبل بطور ریفری آخری مرتبہ جنوری 2006 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان تین ٹیسٹ میچز کی سیریز میں ذمہ داریاں نبھانے پاکستان آئے تھے۔

102 ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچوں میں ریفری کے فرائض انجام دینے والے 60 سالہ رجن مدوگالے نے بطور ریفری 27 سال قبل پاکستان میں ہی ڈیبیو کیا تھا۔ دسمبر 1993 میں پاکستان اور زمباوے کے درمیان ٹیسٹ میچ میں پہلی مرتبہ ریفری کی ذمہ داریاں نبھانے والے رجن مدوگالے نے ایک روزہ ڈیبیو بھی اسی ماہ کیا تھا۔

مدوگالے نے اس سے قبل پاکستان میں کسی ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچ میں ذمہ داری کے

فرائض انجام نہیں دئیے تاہم وہ پاکستان میں کھیلی گئی 5 سیریز کے 15 ٹیسٹ اور آئی سی سی ورلڈکپ 1996 کے 6 میچز سمیت کل 20 ایک روزہ میچوں میں ریفری کی ذمہ داریاں نبھاچکے ہیں۔

میچ ریفری کی حیثیت سے تعیناتی سے قبل رنجن مدوگالے سری لنکا کی جانب سے 21 ٹیسٹ اور 63 ایک روزہ میچوں میں شرکت کرچکے ہیں۔ اپنے کرکٹ کیریئر کے دوران رنجن مدوگالے 2 ٹیسٹ اور 13 ایک روزہ میچز میں سری لنکا کرکٹ ٹیم کی کپتانی بھی کرچکے ہیں۔

میچ آفیشلز:

پہلا ٹی ٹونٹی میچ بتاریخ 24 جنوری 2020 بمقام قذافی اسٹیڈیم لاہور بوقت دوپہر 2 بجے آغاز: احسن رضا اور شوزب رضا (آن فیلڈ امپائر)، احمد شہاب (تھرڈ امپائر)، طارق رشید (فورٹھ امپائر) اور رنجن مدوگالے (میچ ریفری)

دوسرا ٹی ٹونٹی میچ بتاریخ 25 جنوری 2020 بمقام قذافی اسٹیڈیم لاہور بوقت دوپہر 2 بجے آغاز: احسن رضا اور شوزب رضا (آن فیلڈ امپائر)، احمد شہاب (تھرڈ امپائر)، طارق رشید (فورٹھ امپائر) اور رنجن مدوگالے (میچ ریفری)

تیسرا ٹی ٹونٹی میچ بتاریخ 27 جنوری 2020 بمقام قذافی اسٹیڈیم لاہور بوقت دوپہر 2 بجے آغاز: احسن رضا اور شوزب رضا (آن فیلڈ امپائر)، احمد شہاب (تھرڈ امپائر)، طارق رشید (فورٹھ امپائر) اور رنجن مدوگالے (میچ ریفری)

پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے آئی سی سی کی جانب سے امپائرز اور میچ ریفری کی تعیناتی بعد میں کی جائے گی۔

شیڈول:

24 جنوری بروز جمعہ: پہلا ٹی ٹونٹی میچ بمقام لاہور

25 جنوری بروز ہفتہ: دوسرا ٹی ٹونٹی میچ بمقام لاہور

27 جنوری بروز پیر: تیسرا ٹی ٹونٹی میچ بمقام لاہور

تا 11 فروری: پہلا ٹیسٹ میچ بمقام راولپنڈی

3 اپریل بروز جمعہ: واحد ایک روزہ میچ بمقام کراچی

5 تا 9 اپریل: دوسرا ٹیسٹ میچ بمقام کراچی

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk

ABOUT THE PCB

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

Commercial Partners



www.pcb.com.pk
@therealpcb
@PakistanCricketBoard
@PakistanCricketOfficial
@therealpcb

PCB Headquarters
Gaddafi Stadium
Ferozpur Road, Lahore
Pakistan, PO Box 54000
T: +92 42 3571 7231-4